



سوال

(385) تراویح پڑھاتے ہیں تو خطیب صاحب تراویح باجماعت ادا نہیں کرتے لیکن

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

رمضان میں حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں تو خطیب صاحب تراویح باجماعت ادا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم پچھلی رات قیام کرتے ہیں۔ تراویح باجماعت پڑھنا افضل ہے یا علیحدہ علیحدہ؟ (محمد سلیم بٹ)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نماز تراویح، تہجد، صلاة اللیل، قیام اللیل، قیام رمضان، قیام لیلة القدر، صلاة وتر اور دیگر نوافل لیل میں تین فضیلتیں ہیں: پہلی فضیلت جگہ کی فضیلت ہے کہ ان کو گھر میں ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے کی نسبت افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ((إِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةٍ الْمَرْمِي فِي بَيْتِهِ إِلَّا لِمَنْ تَوَضَّعَ)) [2] ”تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہوتی ہے جو اس کے گھر میں ہو مگر فرض نماز (مسجد میں پڑھنا ضروری ہے۔)“ [دوسری فضیلت وقت کی فضیلت ہے کہ ان کو پچھلی رات ادا کرنا پہلی رات ادا کرنے کی نسبت افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ((يُنزَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ)) [3] ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر اترتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔“ [ٹھیک ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو توابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ پر جمع فرمایا مگر خود پچھلی رات قیام کرتے اور فرماتے: ((وَأَلَيْتُمْ أَيُّهَا أَفْضَلُ مِنَ الْبَيْتِ يَتَقَوَّمُونَ)) [4] عبدالرحمن بن عبدالقاری سے روایت ہے کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ لہجھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ارادہ کر کے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا، پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز (تراویح) پڑھ رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے اور (رات کا) وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصہ سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی مراد رات کے آخری حصہ (کی فضیلت) سے تھی کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ [اور تیسری فضیلت باجماعت کی فضیلت ہے کہ ان کو باجماعت ادا کرنا اکیلے ادا کرنے کی نسبت افضل ہے کیونکہ باجماعت نماز اکیلے کی نماز سے ستائیس یا پچیس درجے افضل ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن ان نمازوں میں تینوں فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان نمازوں کو پچھلی رات باجماعت گھر میں ادا کرے تو یہ تینوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ۔



2. بخاری الاذان باب صلاة اللیل۔ مسلم صلاة المسافرین باب استحباب صلاة النافلة فی بیتہ وجواز حافی المسجد

3. بخاری کتاب التمجید باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل

4. بخاری صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان۔ مسلم صلاة المسافرین باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراويح

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 02 ص 297

محدث فتویٰ